

## مشق نمبر ۴۳

مندرجہ ذیل قرآنی عبارتوں میں مہموز اسماء و افعال تلاش کریں۔

(البقرہ: ۸۰)

① وَ بَيْنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .

|              |            |            |  |              |
|--------------|------------|------------|--|--------------|
| حرف جر مجرور | اسم فعل    | فعل        | جر مجرور (مربکب اضافی) نفی + ضمیر جر مجرور | عطف          |
| متعلق فعل    | مضارع (ہو) | ماضی افعال | متعلق فعل                                  | متعلق فعل    |
| موصولہ + صلہ | جملہ فعلیہ | ع          | مبتداء + خبر قائم مقام                     | موصولہ + صلہ |
|              |            | واو حالیہ  | جملہ اسمیہ تانیہ                           |              |
|              |            | مقولہ      |  |              |

آمَنَّا = آمن (سن) افعال ماضی ۱۵ ← أَفْعَلًا ← الْأَمْنَاءُ ← آمَنَّا ← آمَنَّا  
ادغام

الْآخِرِ = آخر اسم الفاعل فاعل ← الْآخِرِ ← آخِرٌ ← آخِرٌ ← آخِرٌ ← الْآخِرِ  
معرفة

مُؤْمِنِينَ = آمن (سن) افعال ← اسم الفاعل جمع مذکر مُفْعَلُونَ ← مُؤْمِنُونَ ← مُؤْمِنِينَ  
ترجمہ:

اور لوگوں میں سے بعض وہ بے جو کہتا ہے ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

۲ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا (البقرہ: ۳۵)

|            |                                     |                             |                        |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| حرف معرفہ  | فعل امر + فاعل (مربکب عطفی) + مفعول | ع فعل + جر مجرور            | عطف                    |
| بجزوم      | متعلق فعل                           | متعلق فعل                   | متعلق فعل              |
| نداء منادی | جملہ فعلیہ امر (معطوف علیہ)         | جملہ فعلیہ امر (معطوف علیہ) | جملہ فعلیہ امر (معطوف) |
|            |                                     | انتما                       | انتما                  |
|            | نداء (مربکب عطفی)                   |                             |                        |

كُلَا = كل (دن) فعل امر مضارع بوزن يَفْعَلُ ← يَا كَلَا ← كَلَا ← كَلَا

ترجمہ:

اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس سے کھاؤ۔

(۶۳/۲)

۳ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ بِهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (البقرہ: ۲۸)

ع حرف مضارع جبرود نائب  
ع حرف مضارع جبرود نائب  
ع حرف ضمیر + مضارع جہول + ہم  
نئی جہول متعلق الفاعل  
نئی جہول متعلق الفاعل  
نئی مبتداء  
نائب  
الفاعل

جملہ فعلیہ  
ناضیہ

جملہ فعلیہ  
ناضیہ

جملہ فعلیہ  
ناضیہ

یُؤْخَذُ = ءخ ذ (ض) مضارع جہول = یُفْتَلُ = یُؤْخَذُ جہوز الفاء

ترجمہ:

اور اُس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائیگی اور نہ ہی اُس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیگے۔

۴ کُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ (البقرہ: ۶۰)

مفعل امر ع  
مفعل امر ع  
جزمہ  
جزمہ  
فاعل (انتم)  
فاعل (انتم) + متعلق فعل = جملہ فعلیہ

کُلُوا = ءک ل (ن) فعل امر جزمہ = یفعلوا = یا کُلُوا = اکلوا = کُلُوا

ترجمہ:

تم (سب) کھاؤ اور تم (سب) پیو اللہ کے دیے ہوئے سے۔

۵ وَ قَالُوا اخذَ اللَّهُ وَلَدًا (البقرہ: ۱۱۶)

حرف فعل ماضی  
فعل ماضی + فاعل + مفعول بہ  
عطفیہ  
ءخ ذ (ض) افتعال ماضی افتعل = اخذ = اخذ

ترجمہ:

اور انہوں نے کہا "اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔"

(۳ / ۹۳)

۶ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ<sup>۹</sup> أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (النساء: ۸۹)

حرف ذوق فعل<sup>۹</sup> جرح و دور منصوب ناصب فعل مضارع جرح و دور (مركب اضافی)  
عطف نپی مضارع متعلق فعل + مجزوم + متعلق فعل + متعلق فعل

تتخذوا: (خ ذ) افتعال مضارع تفتعلوا: (ت ف ع ل و ا) تاتخذوا: (ت ا ج ذ و ا ن ی) تتخذوا  
مجزوم

جملہ فعلیہ ناپیہ

جملہ فعلیہ

ترجمہ:

تو تم (سب) ان میں سے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں۔

۷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (النساء: ۱۳۶)

حرف کلمہ اسم موصولہ (فعل ماضی) جرح و دور (مركب عطفی) صلہ:  
نذ نذ (موصولہ + صلہ) منادی

آمنوا: (م ن س) ماضی (افتعال) آفعلوا: (أ ا ن و ا م و ن ی) آمنوا

ترجمہ:

اے لوگو! جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے۔

۸ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ (الانعام: ۱۲۱)

حرف نپی مضارع اسم جرح + موصولہ جازم + مضارع مجہول + (مركب اضافی) ناصب + متعلق فعل  
تأكلوا: (ك ل ن) مضارع تفتعلوا: (ت ا ك ل و ا ن ی) تأكلوا: (ت ا ك ل و ا ن ی) متعلق فعل

ترجمہ:

اور تم سب نہ کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام پڑھا ہی نہیں گیا۔

۲. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (الاعراف: ۴۴)

حرف فعل<sup>۱</sup> اسم الفاعل<sup>۲</sup> خبر<sup>۳</sup> حرف (مربک اضافی) خبر<sup>۴</sup> خبر<sup>۵</sup>  
عطف ماضی + فاعل + متعلق مصدریہ مبتدأ مرفوع + قائم مقام خبر و جملہ اسمیہ

أَذَّنَ: عذن (س) تفعیل ماضی ← فَعَّلَ ← أَذَّنَ

مُؤَذِّنٌ: عذن (س) تفعیل اسم الفاعل ← نَفَعِلُ ← مُؤَذِّنٌ

ترجمہ:

تو پکارے گا، ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔

۱۰. خُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا حُذْوًا يَا حُسَيْنًا (الاعراف: ۱۳۵)

حرف فعل<sup>۱</sup> ضمیر<sup>۲</sup> خبر<sup>۳</sup> حرف (مربک اضافی) مضارع<sup>۴</sup> خبر<sup>۵</sup> خبر<sup>۶</sup>  
عطف امر + متعلق فعل (أَمَرَ) + مفعول به<sup>۷</sup> بوجہ امر + مفعول به<sup>۸</sup>

جملہ فعلیہ امر جملہ فعلیہ امر جملہ فعلیہ امر

خُذْ: خذ (ذ) مضارع ← تَفَعَّلُ ← خُذْ

أْمُرْ: أمر (ر) مضارع ← تَفَعَّلُ ← أْمُرْ

يَا حُذْوًا: خذ (ذ) مضارع امر ← يَفْعَلُوا ← يَا حُذْوًا

ترجمہ:

پس اُس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ ان کے بہترین کو لے لیں۔

(۶۳/۵)

۱۱ وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ (الاعراف: ۲۰۴)

حرف شرط فعل ماضی اسم منصوب حرف فعل امر جر مجرور  
عطف شرط مجهول مفعول به جواب مجزوم متعلق فعل = جملہ فعلیہ شرطیہ

قُرِئَ: قراء (ف) مہموز اللام ماضی مجهول فعل ماضی ماضی  
اسْتَمِعُوا: سمع (س) فعل امر مضارع مجزوم افتعلوا استمعوا

ترجمہ

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنیو۔

۱۲ لَوْ أَتَقَاتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَتَيْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

حرف شرط فعل ماضی اسم (جر مجرور) اسم منصوب حرف فعل ماضی ماضی  
غیر ہائزہ (آتت) + موصولہ + صیغہ مفعول بہ  
حال (ب) مفعول لفظی (آتت) ماضی ماضی + مضاف (مکملہ اضافی)

جملہ فعلیہ نافیہ

جملہ فعلیہ شرطیہ

Samra Khalil Uppal  
۶۳ (الانفال: ۶۳) وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ

حرف شرط اسم لکن ماضی ماضی جملہ  
استیفاء ماضی اسم لکن + جملہ فعلیہ خبر لکن

جملہ اسمیہ (استدراک)

أَفَعَلْتَ: ن ف ق (ن) افعال ماضی أفعلت فعل ماضی

أَفَعَلْتَ: ع ل ف (س) تفعیل ماضی فَعَلْتَ فعل ماضی

أَفَعَلَ: ع ل ف (س) تفعیل ماضی فَعَلَ فعل ماضی

جملہ

اگر آپ خرچ کرتے سارے کا سارا جو کچھ زمین میں ہے، آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے اور لیکن اللہ نے انکے درمیان الفت ڈالی۔

(۲۳/۴)

۱۳ وَ يَنْهَكُم مِّنْ يَقُولِ اِذْنًا لِّي (التوبه: ۲۹)

حرف جر مجرور اسم فعل مضارع + فعل امر + جر مجرور  
عطف قائم مقام (هَوَّ) (رَأَيْتُ) + متعلق فعل (مَقُولِ)  
خبر مقدم + (موصولہ + وصلہ) مبتداء مؤخرہ جملہ اسمیہ

اِذْنًا = عذن (س) فعل امر اَفْعَلُ ← اِذْنًا

ترجمہ =

اور ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے آپ اجازت دیں مجھ کو۔

۱۴ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (الحجرات: ۲۳)

حرف لام حرف فعل ماضی اسم مفعول + مفعول به  
عطف تاکیدی تحقیق (لَقَدْ)  
جملہ فعلیہ

مُسْتَأْخِرِينَ = ع (س) استفعال + اسم الفاعل ← مُسْتَأْخِرِينَ ← مُسْتَأْخِرِينَ

ترجمہ =

یقیناً ہم نے بھیجے رہنے والوں کو جان لیا۔

۱۵ مَا أَسْأَلُكَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفرقان: ۵۷)

حرف نفی فعل مضارع + ضمیر جر مجرور  
انا فاعل + مفعول + متعلق فعل + متعلق فعل + جملہ فعلیہ نافیہ

أَسْأَلُ = س (ف) مضارع معروف ← أَفْعَلُ ← أَسْأَلُ

ترجمہ =

میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔